

گھر – اسکول کا معاہدہ

اسلاؤ اینڈ ایٹن چرچ آف انگلینڈ بزنس اینڈ انٹر پرائز کالج طالبعلموں کی کامیابی میں گھر اور اسکول کی باہمی حصہ داری کو ضروری سمبھتے ہیں۔

بہترین نتائج کو حاصل کرنے کے لیے طالبعلم معاہدہ کریں گے کہ وہ:

اسکول باقاعدگی سے، وقت پر، درست رویے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔1-

اسکول کی درست وردی پہنے گے اور ہر دن کے لیے صحیح سامان ساتھ لائیں گے۔

اسکول آتے ہوئے اور اسکول سے واپسی پر، ٹرپ اور وزٹ کے دوران اسکول کے اچھے نمائندگان ثابت ہوں گے۔

کلاس کے اندر اور باہر بہترین اسلوک اور رویے کا مظاہرہ کریں گے اور اسکول کی تمام توقعات پر پورا اتریں گے۔

دوسروں کی عزت کریں اور ان کی چیزوں کے ساتھ احتیاط برتیں۔

اپنی چیزوں کی خود ذمہداری لیں اور قیمتی چیزیں اور زیادہ رقم اسکول مت لائیں۔

اپنی ڈائری کو احتیاط سے استعمال کریں اور اسکول کا ہومورک تفصیل سے لکھیں۔

ہومورک وقت پر مکمل کریں۔

اسکول کی تمام سرگرمیوں میں حصہ لیں کلب اور افٹر اسکول کلاسز۔

اسکول کے تمام خطوط، نوٹسز اور فرائیڈڈے رویو والدین کو اسی دن پہنچائیں۔

والدین اور اساتذہ سے اپنے مسائل بیان کریں۔

ای سیفٹی کے اصولوں کی پابندی کریں جیسا کہ آئی سی ٹی کے کمرہ جماعت اور اسکول کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے۔

دوسرے طلباء کی حفاظت اور رویے کے بارے میں مسائل کو فوراً رپورٹ کریں۔

اسکول اور گھر کے تعلقات کو مثبت رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔

اسکول کے آئی سی ٹی سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے طلباء درج ذیل چیزوں کا خیال رکھنا ہو گا:

اس بات کی یقین دہانی کریں کہ وہ اپنا یوسرنیم اور پاسورڈ حفاظت اور احتیاط سے رکھیں۔ وہ اپنا یوسرنیم اور پاسورڈ کسی کو نہ دیکھائیں اور نہ ہی کسی اور کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔

جب آن لائن ہوں تو اپنی ذاتی معلومات کسی کو مہیا نہ کریں۔

اگر آن لائن کوئی غیر جانبدارانہ اور ناخوشگوار مواد اور پیغام دیکھیں جو انہیں بے سکون کرتا ہے اس کو فوراً رپورٹ کریں۔

اسکول کے سسٹم کو ذاتی اور تخلیقی کاموں کے لیے اسکول کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔

اسکول کے سسٹم کو آن لائن گیمز، آن لائن جوا بازی، انٹرنیٹ شاپنگ، فائل شیئرنگ اور وڈیو نشر (یوٹیوب) کرنے کے لیے اسکول کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔

کسی اور یوسر کی فائلیں ان کے علم اور اجازت کے بغیر نہ کھولیں، کاپی کریں اور استعمال کریں۔

دوسروں کے ساتھ نرمی اور ذمہداری سے بات چیت کریں۔

کسی کی اجازت کے بغیر ان کی تصویر نہ لیں اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ شیئر کریں۔

اپنے ذاتی آلات (موبائل فون، یو ایس بی وغیرہ) اجازت اور اسکول کی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

کسی قسم کا غیر قانونی اور غیر جانبدارانہ مواد جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ نہ کریں۔
کوئی اس قسم کا سوفٹ ویئر اور پروگرام استعمال نہ کریں جو اسکول کے حفاظتی نظام کو بائی پاس کر کے سسٹم کو نقصان پہنچائے۔

اسکول کے سسٹم، سامان اور سوفٹ ویئر میں خرابی یا نقصان کی فوراً " رپورٹ کریں۔
اسکول کے سامان میں کسی قسم کی مداخلت، اس کو ٹھیک کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش مت کریں۔
اسکول کے سسٹم پر کسی قسم کا پروگرام انسٹال نہ کریں اور نہ ہی کمپیوٹر کی سیٹینگ کو بدلیں۔
سوشل میڈیا کی سائٹس کو مقررہ وقت پر اجازت لے کر استعمال کریں۔
اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسروں کا کام صرف ان کی اجازت سے ہی اپنے کام میں استعمال کریں۔
کوئی کاپی رائٹ والا کام (موسیقی یا ویڈیو) ڈاؤنلوڈ نہ کریں۔

ہمارے طالبعلموں کے لیے بہترین ممکن نتائج حاصل کرنے کے لیے والدین کو معاہدہ کرنا ہو گا
کہ؛

وہ اسکول کے اصولوں سے متفق ہوں گے۔
اپنے بچے/بچی کی اسکول کی زندگی میں بھرپور دلچسپی لیں گے۔
آپ کا بچہ/بچی اسکول باقاعدگی سے، وقت پر، درست سامان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
اسکول سے بچے کے کام اور پڑھائی کے رویے کے متعلقہ تمام معلومات پر بات چیت کریں۔
اسکول کو کسی بھی وجہ سے بچے کی اسکول سے غیر حاضری کی اطلاع دیں۔
اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ کا بچہ/بچی اسکول کی بیحیوئیر پالیسی کی پیروی کرے اور اسکول جو قدم اس بارے میں اٹھائے اس کا ساتھ دیں۔
اسکول سے باہر سیکھنے پر اور پڑھائی کی طرف مثبت رویے پر بچے کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں متعلقہ سہولتیں مہیا کریں۔
پیرنٹس ایوننگس، پیوپل اسپورٹ میٹنگس اور دیگر مواقع جات جہاں آپ کی آمد متوقع ہے وہاں ضرور حاضر ہوں۔
اسکول اور گھر کے تعلقات کو مثبت رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔

میں معاہدہ کرتا/کرتی ہوں کہ میں اسلاؤ اینڈ ایٹن چرچ آف انگلینڈ بزنس اینڈ انٹر پرائز کالج سے ہر
لحاظ سے متفق ہوں۔

گھر – اسکول کا معاہدہ

| | Signature | Print Name | Date |
|-------------------------|-----------|------------|------|
| Pupil طالب علم | | | |
| Parent/Carer والد/والدہ | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| School (Form Tutor) اسکول (فارم ٹیچر) | | | |
|---|--|--|--|